



حوصلہ افزائی کے لیے فقرات

Rest Assured!	بھروسہ رکھیں!
Stop worrying.	پریشان مت ہوں۔
What's bothering you?	تمہیں پریشانی کس بات ہے؟
I think you can do that.	میرا خیال ہے تم کر سکتے ہو۔
Don't cry like a child.	بچے کی طرح مت رو۔
There is nothing to fear.	ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔
don't worry about me.	میری فکر مت کرو۔
Don't be sacred.	ڈرو مت۔
Don't hesitate.	ہچکچاؤ مت۔
I'll always be with you.	میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔
you're doing a good job.	تم اچھا کام کر رہے ہو۔
You did a lot of work today.	آج تم نے بہت کام کیا۔
I'm not bothered about it.	مجھے اسکی پرواہ نہیں۔
You 're unnecessarily worried.	تم بلاوجہ پریشان ہو۔
You are a capable man.	تم ایک قابل انسان ہو۔
You can easily do it.	تم یہ آسانی سے کر سکتے ہو۔
I'm proud of you.	مجھے تم پر فخر ہے۔
It does not matter.	کوئی بات نہیں۔
Everything is possible.	سب ممکن ہے۔
You are worth it.	آپ اسکے قابل ہیں۔
Never stop trying.	کوشش کرتے رہیں۔



حوصلہ افزائی کے لیے فقرات

Believe in yourself.

خود پر بھروسہ رکھو۔

Hope for the best.

اچھے کی امید رکھو۔

You can definitely do it.

تم یقیناً یہ کر سکتے ہو۔

Never give up.

کبھی ہمت مت ہارو۔

Be strong.

مضبوط بنو۔

I'll support you either way.

میں ہر حال میں آپکا ساتھ دوں گا۔

Brace yourself.

اپنے آپکو سنبھالو۔

You are improving .

آپ بہتری کی طرف گامزن ہیں۔

You are improving day by day.

آپ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔

Give it a try.

کوشش تو کرو۔

Go for it.

آگے بڑھو۔

Why not?

کیوں نہیں؟

What are you waiting for?

انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟

Just do it.

بس یہ کر دو۔

keep up the good work.

اچھا کام جاری رکھو۔

You are on the right track.

تم صحیح راستے پر ہو۔

Hang in there!

صبر کرو!

Keep Fighting.

لڑتے رہو۔

Stay strong!

مضبوط رہو!

I'm on your side.

میں تمہاری سائیڈ پر ہو۔

It's totally up to you.

یہ پوری طرح سے تم پر ہے۔

Everything will be settled soon.

سب جلد ٹھیک ہو جائے گا۔